



## Formulario de apelación del miembro

Superior HealthPlan STAR+PLUS Medicare-Medicaid Plan (MMP)

Apelaciones y reclamaciones - Operaciones de Medicare

P.O. Box 10450 | Van Nuys, CA | 91410-0450

Fax: 1-844-273-2671

Como miembro de Superior HealthPlan STAR+PLUS Medicare-Medicaid Plan (MMP), usted puede usar este formulario para presentar una apelación relacionada con la denegación de servicios médicos o la cobertura de medicamentos recetados de la Parte B. Puede presentar las solicitudes de apelación por escrito o llamando a Servicios para miembros al 1-866-896-1844 (TTY: 711). Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a .m. a 8:00 p. m. Es posible que se le pida que deje un mensaje fuera del horario de atención, los fines de semana y los días festivos. Le devolverán la llamada al siguiente día hábil. Superior STAR+PLUS MMP le proporcionará una decisión dentro de los siguientes plazos a partir de la recepción de su solicitud.

Apelaciones estándar previas al servicio médico:

**30 días corridos**

Apelaciones estándar de medicamentos recetados de la Parte B:

**7 días corridos**

Apelaciones aceleradas previas al servicio médico:

**72 horas**

Apelaciones aceleradas de medicamentos recetados de la Parte B:

**72 horas**

Se proporcionará una decisión de apelación estándar respecto a las apelaciones relacionadas con problemas de pagos por servicios médicos de la Parte C y medicamentos de la Parte B dentro de los 60 días corridos a partir de la recepción de la solicitud. En el caso de que se requiera más información y el retraso sea en su beneficio o si usted solicita más tiempo, contaremos con hasta 14 días corridos adicionales para las apelaciones médicas de servicios previos. En el caso de que necesitemos más días para tomar la decisión le informaremos a usted o a su representante por escrito.

**Apelación acelerada** significa que usted siente que el uso de los plazos estándar podría causar un daño grave a su vida o su salud o arriesgaría su capacidad para recuperar su funcionalidad máxima. También debe involucrar la solicitud de cobertura de una atención médica o un medicamento que aún no ha recibido.

Nombre del miembro: Apellido: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Número de identificación de Medicare: \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento del miembro: \_\_\_\_\_

Relación con el miembro\* (por favor seleccione una):  Uno mismo  Padre  Tutor legal  Cónyuge

Otro: \_\_\_\_\_

\*Si la opción seleccionada es distinta a "Uno mismo", se requerirá documentación que respalde la tutela, un poder notarial o un formulario de designación de un representante (AOR, por sus siglas en inglés). Puede encontrar el formulario AOR en nuestro sitio web [mmp.SuperiorHealthPlan.com](http://mmp.SuperiorHealthPlan.com).

Nombre de la persona que presenta la apelación: \_\_\_\_\_

Número(s) telefónico(s): Casa: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_

H6870\_MMP\_SHP\_202511812 Approved 04232025 (SPN)

Dirección: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_ Condado: \_\_\_\_\_

Correo electrónico: \_\_\_\_\_ Médico: \_\_\_\_\_

Tipo de apelación (por favor seleccione una):

- Apelaciones estándar previas al servicio médico – (revisión dentro de 30 días corridos)
- Apelación acelerada previa al servicio médico – (revisión dentro de 72 horas)
- Apelación estándar de medicamentos recetados de la Parte B – (revisión dentro de 7 días corridos)
- Apelación acelerada de medicamentos recetados de la Parte B – (revisión dentro de 72 horas)
- Apelación estándar por problemas de pago de medicamentos de la Parte C y Parte B – (revisión dentro de 60 días corridos)

¿Qué cosa fue denegada? (Por favor incluya una copia de la carta de denegación).

---

---

---

¿Por qué cree que debería recibir este(os) servicio(s) médico(s), medicamento(s) recetado(s) o el pago?

---

---

---

¿Cuál es el mejor medio para comunicarnos con usted con respecto a esta apelación? (por favor seleccione uno):

Teléfono  Correo electrónico  Otro: \_\_\_\_\_

Firma de la persona que presenta la apelación: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Si tiene alguna pregunta, llame al número de Servicios para miembros al 1-866-896-1844 (TTY: 711). Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a .m. a 8:00 p. m. Es posible que se le pida que deje un mensaje fuera del horario de atención, los fines de semana y los días festivos. Le devolverán la llamada dentro del próximo día hábil.

Superior HealthPlan STAR+PLUS Medicare-Medicaid Plan (MMP) es un plan de salud que tiene contratos con Medicare y Medicaid de Texas para proporcionarle a los miembros los beneficios de ambos programas.

**Solo para uso administrativo**

Número de apelación: \_\_\_\_\_ Fecha de recepción: \_\_\_\_\_



**English:** Language assistance services, auxiliary aids and services, and other alternative formats are available to you free of charge. To obtain this, call **1-866-896-1844** (TTY: **711**).

**Spanish:** Contamos con servicios de asistencia lingüística, servicios y asistencia auxiliares y otros formatos alternativos para usted de forma gratuita. Para recibirlas, llame al **1-866-896-1844** (TTY: **711**).

**Spanish:** Contamos con servicios de interpretación gratuitos para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro plan de salud o medicamentos. Para obtener un intérprete, llámenos al **1-866-896-1844** (TTY: **711**). El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. Después del horario de atención, los fines de semana y los días festivos, es posible que se le pida que deje un mensaje. Se le devolverá la llamada el siguiente día hábil. Alguien que habla español puede ayudarle. Este es un servicio gratuito.

**Vietnamese:** Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của quý vị về chương trình sức khỏe hoặc chương trình thuốc của chúng tôi. Để nhận thông dịch viên, chỉ cần gọi cho chúng tôi theo số **1-866-896-1844** (TTY: **711**). Giờ làm việc là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 a.m. đến 8 p.m. Vào các ngày cuối tuần và ngày lễ của tiểu bang hoặc liên bang, quý vị có thể được yêu cầu để lại tin nhắn. Sẽ có người phản hồi cuộc gọi của quý vị vào ngày làm việc tiếp theo. Một nhân viên nói tiếng Việt có thể giúp quý vị. Dịch vụ này được miễn phí.

**Chinese :**我們提供免費的口譯服務，可解答您對我們的健康或藥物計劃可能有的任何疑問。如需口譯員服務，您僅需於週一至週五上午8點至晚上8點致電**1-866-896-1844** (TTY: **711**) 與我們聯絡。週末及州或聯邦假日時，可能會要求您留言。我們將在下一個工作日內回電給您。會說中文的人員可以幫助您。此為免費服務。

**Korean:** 당사의 건강 또는 의약품 플랜과 관련해서 물어볼 수 있는 모든 질문에 답변하기 위한 무료 통역 서비스가 있습니다. 통역사가 필요한 경우 월요일 ~금요일, 오전 8시부터 오후 8시까지 **1-866-896-1844** (TTY: **711**) 번으로 당사에 연락해 주십시오. 주말 및 공휴일에는 메시지를 남겨 주시면 다음 영업일에 전화드리겠습니다. 한국어를 구사하는 통역사가 도움을 드릴 수 있습니다. 통역 서비스는 무료로 제공됩니다.



TEXAS  
Health and Human  
Services



**Arabic:** نوفر خدمات ترجمة فورية مجانية للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك حول خطة الصحة أو الدواء الخاصة بنا. للحصول على مترجم فوري، يرجى الاتصال بنا على الرقم **1-866-896-1844 (TTY: 711)** من الساعة 8 صباحاً لغاية الساعة 8 مساءً، من الاثنين إلى الجمعة. قد يطلب منك ترك رسالة في عطلات نهاية الأسبوع وخلال إجازات الولاية أو الإجازات الفيدرالية، وسنعاود الاتصال بك خلال يوم العمل التالي. يمكن أن يساعدك شخص يتحدث العربية. وتتوفر هذه الخدمة بشكل مجاني.

**Urdu:** بمارے بیلٹھ یا ڈرگ پلان کے بارے میں آپ کے کسی بھی سوالوں کا جواب دینے کے لیے بمارے پاس مفت ترجمان سروسز ہیں۔ مترجم کے لیے ہمیں صرف اس **1-866-896-1844 (TTY: 711)** نمبر پر صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک، پیر تا جمعہ کال کریں۔ اختتام ہفتہ اور ریاستی یا وفاقی تعطیلات میں، آپ کو پیغام بھیجنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ آپ کی کال اگلے کاروباری دن میں واپس کی جائے گی۔ اردو بولنے والا کوئی بھی شخص آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ مفت سروس ہے۔

**Tagalog:** May mga libre kaming serbisyo ng interpreter para sagutin ang anumang posible ninyong tanong tungkol sa aming planong pangkalusugan o plano sa gamot. Upang makakuha ng interpreter, tumawag lang sa amin sa **1-866-896-1844 (TTY: 711)** mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Para sa mga oras pagkatapos ng trabaho, Sabado at Linggo, at pista opisyal, maaaring magpaiwan sa inyo ng mensahe. May tatawag sa inyo sa susunod na araw na may pasok. May makakatulong sa inyo na nagsasalita ng Tagalog. Isa itong libreng serbisyo.

**French:** Nous proposons des services d'interprètes gratuits pour répondre à toutes vos questions sur notre régime de santé ou de médicaments. Pour obtenir les services d'un interprète,appelez-nous au **1-866-896-1844 (TTY : 711)** du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h. Si vousappelez pendant les week-ends et jours fériés, vous devrez peut-être laisser un message. Nous vousrappellerons le jour ouvrable suivant. Un interlocuteur francophone pourra vous aider. Ce service est gratuit.

**Hindi:** हमारे स्वास्थ्य या ड्रग प्लान के बारे में आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए, हम मुफ़्त में दुभाषिया सेवाएं देते हैं। दुभाषिया सेवा पाने के लिए बस हमें **1-866-896-1844 (TTY: 711)** पर कॉल करें। कार्य समय पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक। सप्ताहांत और राज्य या संघीय छुट्टियों पर, आपसे एक संदेश छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। अगले कार्य दिवस पर आपके कॉल का जवाब दिया जाएगा। हिंदी बोलने वाला कोई भी व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। यह एक निःशुल्क सेवा है।



TEXAS  
Health and Human  
Services



**Persian/Farsi:** ما برای پاسخگویی به همه پرسش‌هایی که ممکن است درباره طرح بهداشتی یا دارویی ما داشته باشید، خدمات ترجمه شفاهی رایگان ارائه می‌دهیم. برای در اختیار داشتن مترجم میتوانید دوشنبه تا جمعه از 8 صبح تا 8 شب از طریق شماره **1-866-896-1844 (TTY: 711)** با ما تماس بگیرید. بعد از ساعت اداری، آخر هفته‌ها و روزهای تعطیل ممکن است از شما خواسته شود که پیام بگذارید. در روز کاری بعدی با شما تماس گرفته خواهد شد. شخصی که به زبان فارسی صحبت میکند میتواند به شما کمک کند. این خدمات بهطور رایگان ارائه می‌شود.

**German:** Wir bieten Ihnen einen kostenlosen Dolmetschservice, wenn Sie Fragen zu unseren Gesundheits- oder Medikamentenplänen haben. Um einen Dolmetscher in Anspruch zu nehmen, rufen Sie uns von Montag bis Freitag zwischen 8 und 20 Uhr unter folgender Telefonnummer an: **1-866-896-1844 (TTY: 711)**. An Wochenenden und an Feiertagen werden Sie möglicherweise aufgefordert, eine Nachricht zu hinterlassen. Wir rufen Sie am nächsten Werktag zurück. Ein deutschsprachiger Mitarbeiter wird Ihnen behilflich sein. Dieser Service ist kostenlos.

**Gujarati:** આરોગ્ય અથવા દવા સંબંધી યોજના વિશે તમને હોઈ શકે તેવા કોઈપણ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે અમારી પાસે દુભાષયિની મફત સેવાઓ છે. દુભાષયિ મેળવવા માટે, બસ અમને **1-866-896-1844 (TTY: 711)** પર કોલ કરો. અમારા કામકાજનો સમય સોમવારથી શુક્રવાર સુધી સવારે 8 વાગ્યાથી રાતના 8 વાગ્યા સુધીનો છે. વીકેન્ડ પર અને રાજ્યની કે સંધીય રજાઓના દવિસે, તમને એક મેસેજ મૂકવા માટે કહેવામાં આવી શકે છે. તમારા કોલનો વળતો જવાબ કામકાજના આગામી દવિસની અંદર આપવામાં આવશે. ગુજરાતી બોલતી કોઈ વ્યક્તિત્વમારી મદદ કરી શકે છે. આ એક મફત સેવા છે.

**Russian:** Если у вас возникли какие-либо вопросы о нашем плане медицинского страхования или плане с покрытием лекарственных препаратов, вам доступны бесплатные услуги переводчика. Если вам нужен переводчик, просто позвоните нам по номеру **1-866-896-1844 (TTY: 711)**. Часы работы: с 8 а.м. до 8 р.м. с понедельника по пятницу. В выходные и праздничные дни федерального уровня или на уровне штата вас могут попросить оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. Вам окажет помощь сотрудник, говорящий на русском языке. Данная услуга бесплатна.

**Japanese:** 弊社の健康や薬剤計画についてご質問がある場合は、無料の通訳サービスをご利用いただけます。通訳を利用するには、月曜日～金曜日の午前8時～午後8時に、**1-866-896-1844 (TTY : 711)** までお電話ください。週末、祝日は、留守番電話にメッセージを残す必要がある場合があります。その場合は、次の営業日に折り返しお電話いたします。日本語の通訳担当者が対応します。これは無料のサービスです。



TEXAS  
Health and Human  
Services



**Laotian:** ລາວກເຮົາມີບໍລິການແປພາສາຟຣີເພື່ອຕອບທຸກຄໍາຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນ  
ສະຂະພາບ ຫຼື ຍາຂອງພວກເຮົາ. ທາກຕ້ອງການຄົນແປພາສາ ພົງແຕ່ໃຫ້ທ່າພວກເຮົາທີ່  
**1-866-896-1844** (TTY: **711**) ເວັ້ນແຕ່ 8 ໂມງຊົ້າຫາ 8 ໂມງແລງ, ວັນຈັນທ່າວັນສຸກ. ຫຼັງຈຶ່ງມີມາ  
ຮັດວຽກ, ໃນທ້າຍອາຫັດ ແລະ ໃນວັນຟັກ, ທ່ານອາດຈະຖືກບອກໃຫ້ຜ່າກຂໍ້ຄວາມໄວ້. ທ່ານຈະ  
ໄດ້ຮັບການໂທກັບພາລີໃນໃນມີຮັດວຽກທັດໄປ. ຈະມີຄົນທີ່ໄວ້ພາສາລາວສາມາດຊ່ວຍ ທ່ານໄດ້.  
ນີ້ແມ່ນການບໍລິການຟຣີ

**Italian:** Sono disponibili servizi di interpretariato gratuiti per rispondere a qualsiasi domanda possa avere in merito al nostro piano farmacologico o sanitario. Per usufruire di un interprete, è sufficiente contattare il numero **1-866-896-1844** (TTY: **711**) dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00. Nei fine settimana e nei giorni festivi statali o federali potrebbe essere necessario lasciare un messaggio. La ricontatteremo entro il giorno lavorativo successivo. Qualcuno la assisterà in lingua italiana. È un servizio gratuito.

**Portuguese:** Temos serviços de intérprete gratuitos para responder a quaisquer dúvidas que possa ter sobre o nosso plano de saúde ou medicação. Para obter um intérprete, contacte-nos através do número **1-866-896-1844** (TTY: **711**). O serviço está disponível de segunda-feira a sexta-feira, das 8:00 às 20:00. Se ligar ao fim de semana ou num feriado, poderá ter de deixar mensagem. A sua chamada será devolvida no próximo dia útil. Um falante de português poderá ajudá-lo. Este serviço é gratuito.

**French Creole:** Nou gen sèvis entèprèt gratis pou reponn nenpòt kesyon ou ka genyen sou plan sante oswa plan medikaman nou an. Pou jwenn yon entèprèt, senpleman rele nou nan **1-866-896-1844** (TTY: **711**) soti 8è a.m. rive 8è p.m., Lendi pou Vandredi. Aprè lè biwo yo fèmen, nan wikkens ak pandan jou ferye, yo gendwa mande w pou ou kite yon mesaj. Y ap tounen rele w pwochen jou biwo yo louvri a. Yon moun ki pale Kreyòl Ayisyen kapab ede w. Se yon sèvis gratis.

**Polish:** Oferujemy bezpłatną usługę tłumaczenia ustnego, która pomoże Państwu uzyskać odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące naszego planu leczenia lub planu refundacji leków. Aby skorzystać z usługi tłumaczenia ustnego, wystarczy zadzwonić pod numer **1-866-896-1844** (telefon tekstowy (TTY): **711**) w godzinach od 8:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku. W weekendy i święta konieczne może być pozostawienie wiadomości. Oddzwoniemy w następnym dniu roboczym. Zapewni to Państwu pomoc osoby mówiącej po polsku. Usługa ta jest bezpłatna.